




Better light a candle than curse the darkness


شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے

Be Aware, Always, Everywhere

# Ramadan Special



Ramadan, month of Qur'aan



Haram Sharif



Masjid Nabwi

اللہ اکبر

سبحان اللہ

سبحن اللہ وبحمدہ

سبحن اللہ العظیم

## May Allah

Give us the strength & Patience to fast during the whole month of Ramadan!

Accept all our fasts in this holy month!

Give us the opportunity to worship in the night of Qadr and accept our worship!

Help us to continue all the good deeds we do in this holy month!

(Sharjeel Ahmad, Editor, Bakhabar)

## Ramadan

The Blessed Month of Fasting  
Time to purify and train body and soul

Prophet Muhammad's (peace and blessings of Allah be upon him) address on the eve of Ramadan (Narrated by Ibn Khuzamah):

People, a great blessed month has come upon you.

Allah has made fasting during it an obligation, and steadfastly observing its nights in worship a voluntary act.

Whoever undertakes an act of obedience to Allah during this month with a righteous deed, it is as if he has performed an obligatory act at other times, and whoever performs an obligatory act during it is as one who performed seventy obligations at other times.

It is the month of patience, and the reward for patience is Paradise. It is the month of goodwill, during which provisions are multiplied. Prophet Muhammad's (peace and blessings of Allah be upon him) said:

"Allah has no need for the hunger and the thirst of the person who does not restrain from telling lies and acting on them even while observing fast."

"When one of you is fasting, He should abstain from indecent acts and unnecessary talk, and if someone begins an obscene conversation or tries to pick an argument, he should simply tell him, 'I am fasting.'"


Ramadan provides an annual training opportunity that is meant to fulfil the character-building needs for the rest of the year.

### Benefits of Fasting in Islam : How character-building is achieved...

- God-fearing nature
- Self-discipline
- Afterlife Accountability
- Responsibility
- Patience
- Obedience
- Self-control
- Purification of soul



Ramadan, 1st Ashra-  
Allah's Mercy,  
2nd Ashra, Allah's  
Forgiveness  
3rd Ashra, Salvation from  
hell-fire



If anyone claims what is not his, he does  
not belong to us, and let him come to  
his seat in hell. (Muslim).

Masjid in Malaysia



مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے مسلمان محفوظ رہے۔

Masjid in Thailand



Masjid in England

کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے  
لئے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم کو یہ فرماتے سنا ہے: لوگوں سلام کو پھیلاؤ،  
بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور لوگ جب سوئے پڑے ہوں تو نماز پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت  
میں داخل ہو جاؤ گے۔ (ترمذی)

اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا اقبال

## روزہ کے احکامات

### روزہ کے ارکان

۱۔ نیت کا ہونا ۲۔ روزہ توڑنے والی چیزوں سے فجر سے لیکر غروب آفتاب تک رک جانا  
روزہ کے صحیح ہونے کی شرطیں:

- (۱) اسلام کا ہونا۔ (۲) رات سے ہی اگلے دن کیلئے روزہ کی نیت کا ہونا۔ (۳) عقل کا ہونا۔
- (۴) تمیز کا ہونا، یعنی جو روزہ توڑنے والی چیزوں کو سمجھ سکے۔ (۵) حیض کے خون کا نہ آنا۔
- (۶) نفاس کے خون کا بند ہونا۔

### روزہ کی سنتیں

- (۱) افطاری میں جلدی کرنا۔ (۲) کھجور یا چھوہارے یا پانی سے افطاری کرنا۔
- (۳) افطاری کا وقت قریب ہونے کے وقت دعائیں کرنا۔ (۴) سحری کھانے میں تاخیر کرنا۔
- (۵) نقلی نمازیں اور نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کرنا۔ (۶) قرآن کریم کی تلاوت اور عمرہ ادا کرنا۔
- (۷) قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز پڑھنا۔ (۸) اعتکاف میں بیٹھنا۔

### روزہ میں مکروہ چیزیں:

- (۱) کلی یعنی غرہ کے وقت مبالغہ کے ساتھ پانی حلق کے پاس کھینچنا یا ناک میں مبالغہ کے ساتھ  
پانی چرھانا۔ (۲) جھوٹ، یا غلط بات، غیبت اور چغلی کرنا۔ (۳) شہوت کو بھڑکانا۔

### روزہ کو فاسد اور توڑ دینے والی چیزیں:

- (۱) کھانا، پینا اور جو چیزیں انکے مشابہ ہوں۔ (۲) جماع یعنی ہمبستری۔ (۳) جان بوجھ کر  
قتلے کرنا۔ (۴) شہوت کے ساتھ جان بوجھ کر منی نکالنا۔ (۵) حیض اور نفاس۔
- (۶) زیادتی مقدار میں بدن سے خون کا نکلنا۔ (۷) روزہ کو توڑ دینے کی نیت کر لینا۔

ملاحظہ: یہ مندرجہ بالا چیزیں جو روزہ کو توڑ دینے والی ہیں انکے لئے یہ شرط ہے کہ۔

- (۱) ان چیزوں کا اسے علم ہو (ب) اسے ان پر مکمل اختیار ہو (ج) جان بوجھ کر اسے کرے۔

### جن چیزوں کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا مباح اور جائز ہو جاتا ہے۔

- (۱) سفر کی وجہ سے۔ (۲) مرض کی وجہ سے۔ (۳) حیض اور نفاس کی وجہ سے۔ (۴) کسی  
شخص کو ہلاکت سے بچانے کے لئے ایک روزہ دار اپنا روزہ توڑ سکتا ہے تاکہ وہ نہ ہلاک ہو جائے،  
یا حمل والی خواتین کے روزہ رکھنے سے انکی صحت اور بچے پر اثر پڑیگا، یا دودھ پلانے والی عورتوں  
کا بچہ بھوکا رہ جائیگا۔ تو پھر ان سب کے لئے مباح ہے کہ روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں اسکی قضا کریں۔

The condition of hunger gets highlighted on each  
fasting person leading to:

- Care and concern for the poor and hungry
- Helping attitude towards have-nots
- Charity and donations
- Refrain from wasting food and drinks.
- Social responsibility

جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کے اس  
میں میری مرضی ہے اور جب قبول نہ ہو تو اور خوش ہوتا  
ہوں کے اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ حضرت علی



اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ گناہگار  
چیز جھوٹ بولنے والی زبان ہے۔



Masjid in Pakistan



Masjid in Kazakhstan



Masjid in Surinam

جس طرح کسی انسان کو لاحق خطرناک بیماری کی وجہ سے کوئی دوا کا اثر نہیں ہوتا ہے اسی طرح  
کچھ لوگوں پر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ کہیں آپ بھی ان میں سے تو نہیں؟

مسجد تو بنادی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پانی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا اقبال

## MEDICAL ASPECTS OF FASTING

Dr. Moiz Shams, Aligharh

There are two beneficial health aspects of RAMADAN, one would be the psychological benefit and the other the physical health benefits which includes:

1. Loss of excess weight.
2. Improvement of Lipid profile and Glucose profile.
3. Gastrointestinal rest. This benefits patient with chronic gastrointestinal diseases.
4. In salah (Namaz) all the muscles and joints have mild exercise in terms of caloric output.
5. Ramadan fasting is actually an exercise in self discipline. For those who are chain smokers or nibble food constantly or drink coffee or tea every hour is good way to break the habit.
6. Psychological effect of feeling of inner peace and tranquility. The prophet (SAW) has advised "If one slanders you or aggress against you, tell them 'I am fasting.'" Thus personal hostility during the month is minimal.

Regarding general advice for maximum benefit from fasting there are few tips.

1. Drink a lot of fluid throughout the period between Iftar and Sahoor, especially for old persons exposed to cardiovascular risks.
  2. It is actually sunnah to break your fast on a date, then go to pray the Maghrib and return to complete your iftar. This is the ideal way to break your fast and avoid too much eating suddenly after a long period of hunger.
  3. Try to avoid heavy meals, specially Iftar. Lighter meals will help you perform prayer etc without feeling sleepy.
  4. Avoid fatty meals and diets containing a high amount of sugar, as much as you can. Ramadan is a chance to lose the excess weight and improve the internal metabolic profile.
  5. Try to increase diets containing water and fibres in both Iftar and Sohoor.
- Taraweeh prayer are unique in building up muscles during physical movements of prayer. Tension is relieved in the mind due to spiritual persons perform Tarawih prayer feel alert and active.

حضرت شہداء ابن اوسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "سب سے عمدہ استغفار کی دعائیہ ہے کہ تم کہو:  
"اے اللہ! تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، میں  
نے تجھ سے بندگی اور اطاعت کا جو قول و قرار کیا ہے، اس پر اپنے امکان بھر قائم رہوں گا، جو گناہ میں نے کیے  
ہیں، ان کے برے نتائج سے بچنے کی لیے تیری پناہ کا طلب گار ہوں، تو نے مجھ پر جتنے احسانات کیے ہیں ان کا  
مجھے اقرار ہے، اور میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے گناہ کیے ہیں، پس اے میرے رب! میرے جرم کو  
معاف کر دے، تیرے سوا میرے گناہوں کو اور کون معاف کرنے والا ہے۔" (بخاری)

**A BOOK**

I am a book in Elegant Print;  
To know my name, here are some hints.  
Rich in cover and nicely bound;  
In hearts of Muslims I am rarely found.  
High on a shelf I am kept;  
Forgotten there I am left.  
With respect I do get a lot of kisses;  
My main point is what that always misses.  
In a melodious voice they recite me;  
Neglecting the meaning inside me.  
At times I am used to swear;

My true use is very very rare.  
A miracle I am that can change the World;  
All one has to do is understand my Word.  
I have Wisdom, I have Treasure;  
So much so that there is no Measure.  
I am your Scout; I am your Guide;  
But who's there to follow my bide.  
Separating Right from the wrong is my  
Fame,  
Holy Quran is my Name.  
Amit Hashmi: afhashmi1211@yahoo.com



Ramadan provides an annual training opportunity that is meant to fulfil the character-building needs for the rest of the year

جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔



Masjid in Turkmanistan

"The hearts too become corroded (by means of sin). Its polish is istighfaar." (Baihaqi).



Masjid in Kjakistan

Masjid in Iraq

سارے عمل نیت سے ہیں۔



اختیار، دولت اور طاقت ایسی چیز ہیں جن کے ملنے سے

لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہوتے ہیں۔

حضرت علی

کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو  
مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ تجھ کو  
کہ تجھ سے ہونہ سکی فقر کی گہبانی  
خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی  
اقبال

HADITH: Do not make of my grave a site for festivals. (Abu Dawud)

## 30 Common Mistakes During Ramadan

This list was taken from a class on the fiqh of Ramadan, given by Sheikh Ahmad Musa Jibril. Some of the issues may have a difference of opinion, but these are the most correct opinions.

- 1) Focusing on food; to the extent that people begin to worry about eating more than actually fasting. This also goes along with spending tons of money on Iftaars even though a person does not need to eat that much food.
- 2) Making Suhoor way before Fajr. Some people eat Suhoor a few hours after Taraweeh or Isha Salah, this is wrong. It should be eaten closer to the time of Fajr.
- 3) People don't make Niyyah (intentions) to fast for Ramadan. This is something in the heart and does not need to be verbal. Also it only needs to be done once, at the beginning of Ramadan and not every single day.
- 4) If you find out late that Ramadan started, you should stop eating and fast for that day, making that day up after Ramadan/Eid ends.
- 5) Many people don't think you pray Taraweeh on the first night of Ramadan (such as tonight). They believe you pray it after the first day you actually fast. They forget that the Islamic calendar runs on the moon, maghrib is the start of the new day.
- 6) Many people believe if you eat or drink on accident this breaks your fast. This is false, if you do this on accident then you continue fasting and do not need to make up the day.
- 7) Some people take the opinion that if they see someone eating or drinking they should not remind the person that he/she is fasting. According to Sheikh Bin Baz (ra), this is incorrect and it is an order from Allah for us to ordain the good and forbid the evil. Thus we tell the person, because we are forbidding the evil this way.
- 8) Many sisters believe they cannot use Henna while fasting. This is incorrect, they are allowed to use it during Ramadan
- 9) Some people believe when you are cooking you cannot taste the food to see if it has the right spices/flavors. This is false, and allowed in Islam as long as the person cooking is not eating the food. Rather they can taste it to see if it needs salt, or more spices.
- 10) Many people think you cannot use a Miswak or toothbrush during Ramadan. This is false, for the Prophet(saw) used to use a miswak during Ramadan. Also you CAN use toothpaste; the reasoning by the scholars is that the Miswak has flavor, thus toothpaste is okay to use (if you are not eating it).
- 11) Some people make the Fajr Adhan early. They do this so people will stop eating before Fajr and not invalidate their fast. This is wrong and something we should not do.
- 12) Some people make the Maghrib Adhan late. They do this so people will start eating late, just incase Maghrib has not come in yet. This too is wrong and we should not do this.
- 13) Many many people believe you cannot have intercourse with your spouse during the whole month of Ramadan. This is false, you cannot do this only during the times when you are fasting. Between Maghrib and Fajr it is permissible to do.
- 14) Many women believe that if their period has just ended and they did not make ghusl, they cannot fast that day (considering their period ended at night, and they went to bed without Ghusl, waking up without having a chance to make it). This is incorrect, if a women has not made Ghusl she can still fast. (Continue on page 5)

حضرت زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَیْهِ کہے تو اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے اگرچہ اس نے کفار کے مقابلہ سے بھاگنے کے گناہ عظیم کا ارتکاب ہی کیوں نہ کیا ہو۔ سنن ابوداؤد



وہ گناہ جنکا تمہیں رنج ہو اس نیکی سے  
بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہو۔  
حضرت علی

Touch an orphan's head and feed  
the poor. (Ahmad)

Masjid in Turkey

Correct yourself and your families first  
[before trying to correct others] [Quran,66/6]

Masjid Putra

Masjid in Greece

Fear Allah wherever you are, and follow up  
a bad deed with a good deed and it will  
wipe it out, and behave well towards  
people. (Tirmidhi).

Thanks Allah for his kindness  
not only by words but by  
heart with good deeds

ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک  
کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک  
اقبال

منافعات ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک  
حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک

یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ اقبال

## Continue....30 Common Mistakes During Ramadan

15) Many men believe that if he has had intercourse with his wife and did not make ghusl (similar to the above) then he cannot fast the next morning. This is also incorrect, for he can fast even if he has not made Ghusl.

16) Some people pray Dhur and Asr prayers together during Ramadan. (mainly in Arab countries) This is incorrect and should be avoided.

17) Some people believe you cannot eat until the Muadthn is done calling the Maghrib Adthan. This is incorrect, as soon as he starts a person can break their fast.

18) Many people don't take advantage of making dua before they break their fast. This is one of the three times when Allah accepts a person dua.

19) Many people make the mistake of spending the later part of Ramadan preparing for Eid, neglecting Ramadan. This is incorrect and these people lose the concept of what Ramadan is about.

20) Many parents do not let their children fast during Ramadan (young children). This is something counter productive to a child. By allowing him to fast he will grow up to know he must do this act.

21) Many people think Ramadan is just about not eating and forget about controlling their tempers and watching what they say. In actuality we are supposed to control our tempers and mouths even more during Ramadan.

22) People often waste their time during Ramadan. They go to sleep during the day and get nothing done. We should be taking advantage of this blessed month by doing extra Ibaadat.

23) Some people don't go on trips or travel during Ramadan. They think they have to break their fast when traveling. This is actually optional, if you want to break your fast while traveling you can (with making it up later), and if you don't you can continue fasting.

24) Many people who are able don't make Itikaaf at the masjid. We should take advantage of our good health and spend lots of time at the Masjid, especially the last 10 days of Ramadan.

25) Some people believe they cannot cut their hair or nails during Ramadan. This is also false.

26) Some people say you cannot swallow your spit during Ramadan. This too is false. However you cannot swallow mucus that has entered your mouth.

27) Some people say you cannot use scented oils or perfumes during Ramadan. This too is false.

28) Some people believe bleeding breaks the fast. This is not true.

29) Some people believe if you throw up on accident it breaks your fast. This is not true, however if you do it intentionally it does.

30) Some people think you cannot put water in your nose and mouth during wuduh in Ramadan. This too is incorrect. Source: <<http://www.a2youth.com/islam/special/ramadan/>>

ایومیرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سات آدمیوں کو اللہ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن کہ سوائے اس کے سائے کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا حاکم، عادل اور وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہو اور وہ دو اشخاص جو باہم صرف خدا کے لئے دوستی کریں جب جمع ہوں تو اسی کے لئے اور جب جدا ہوں تو اسی کے لئے اور وہ شخص جس کو کوئی منصب اور جمال والی عورت زنا کیلئے بلائے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لئے نہیں آسکتا اور وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا اور وہ شخص جو خلوت میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جائیں۔ صحیح بخاری

Quoted from Al-Hasan Al-Basri : "He who has no manners has no knowledge; he who has no patience has no Deen, and he who has no piety has no nearness to Allaah for him."

فرقہ بندی ہے کہیں، اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں چننے کی یہی باتیں ہیں اقبال



Ager kisi ka zarf azmana ho to usko ziada izzat do, Wo ala zarf hua to ap ko aur izzat dey ga or kam zarf hua to khud ko AALA ZARF sumjhey ga, (Hazrat ALI R.A)


غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔



Masjid in China

Jama Masjid

The Prophet (PBUH) of Allah said: 'The best of you is he who is best to his wife.' (Tirmidhi).



Masjid in Pakistan



آدمی کے ریس ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ (مسلم)

## A quick checklist in Ramadan

1. Make a resolve to win the maximum favor of Allah by performing extra Voluntary prayers (Nawaafil), making frequent Dua and increased remembrance (Dhikr).
2. Try to recite some Holy Quran after every Prayer. In fact if you read 3-4 pages after every Prayer you can easily finish the entire Quran in Ramadan!
3. Study the Tafseer (commentary) every morning.
4. Invite a person you are not very close with or your relatives to your home for Iftaar, at least once a week (Weekend). You will notice the blessings in your relationships!
5. Bring life to your family! Everyday, try to conclude the fast with your family and spend some quality time together to understand each other better.
6. Give gifts on Eid to at least 5 people: 2 to your family members, 2 to your good friends, and 1 to a person whom you love purely for the sake of Allah.
7. Make commitment to join Islamic study circles to learn more about Islam and improve your own life.
8. Donate generously to the Masajid, Islamic organizations, and any where people are in need or oppressed. "Because Ramadan, is a month of sharing!"
9. Share month of Ramadan and its teachings of peace and patience with your neighbor.
10. Sleep little, eat little! Make sure you do not defeat the purpose of fasting by over-indulging in food and being lazy.
11. Seek the rare and oft-neglected rewards of the night better than 1000 months (Laylatul-Qadr / Shab-e-Qadr).
12. Weep in private for the forgiveness of your sins: Ramadan is the month of forgiveness and Allah's Mercy! It's never too late.
13. Learn to control your tongue and lower your gaze. Remember the Prophet's (pbuh) warning that lying, backbiting, and a lustful gaze all violate the Ramadan fast!
14. Encourage others to enjoin and love goodness, and to abandon everything that Allah dislikes. Play the role of a Da'ee (one who invites to Allah) with zeal, passion, and sympathy.
15. Experience the joy of Tahajjud prayers late at night and devote yourself purely and fully to Allah in the Itikaf retreat during the last 10 days of Ramadan.

حضرت علیؑ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب میری امت میں پندرہ حصتیں پیدا ہو جائیں تو اس پر مہینتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔"

(۱) جب سرکاری مال ذاتی ملکیت بنا لیا جائے۔ (۲) امانت کو مالِ نسیبت سمجھ لیا جائے۔ (۳) زکوٰۃ جرمانہ محسوس ہونے لگے۔ (۴) شوہر بیوی کی اطاعت کرنے لگے۔ (۵) اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے۔ (۶) آدمی دوستوں سے بھلائی کرے۔ (۷) اور اپنے باپ پر ظلم و زیادتی کرے۔ (۸) مساجد میں شور مچایا جائے۔ (۹) قوم کا ذلیل ترین شخص اس کا لیڈر بن جائے۔ (۱۰) آدمی کی عزت اس کی برائی کے ڈر سے ہونے لگے۔ (۱۱) نشہ آور اشیاء کھلم کھلا استعمال ہونے لگیں۔ (۱۲) مرد رشیم پہننے لگیں۔ (۱۳) آلات موسیقی عام ہو جائیں۔ (۱۴) گانے والی لڑکیاں فراہم کی جائیں۔ (۱۵) اگلے وقت کے لوگوں پر لعن طعن کیا جانے لگے۔

ارشاد ہوا: جب ایسا ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہر وقت عذاب الہی کا انتظار کریں خواہ وہ عذاب سرخ آمدگی کی شکل میں آئے یا زلزلے کی صورت میں آئے یا اصحابِ سبت کی طرح صورتیں مسخ ہونے کی شکل میں۔ (رواہ ترمذی)

The Prophet (peace be upon him) said, "Whoever guarantees me (the chastity of) what is between his legs (i.e. his private parts), and what is between his jaws (i.e., his tongue), I guarantee him Paradise. (Shahi Bukhari, Book #82, Hadith #799)



Hadhrat Abdullah narrates that Muhammad said (PBUH): "The seeking of a halal earning is the (next) Fardh (duty) after the Fardh (Salat)." (Baihaqi).

Among the believers who show most perfect faith are those who have best disposition and are kindest to their families. (Tirmidhi).



Masjid in South Korea

The man who is most hateful to Allah is the one who quarrels and disputes most. (Bukhari, Muslim).



Masjid in Philippines

Respect and honour all human beings irrespective of their religion, colour, race, sex, language, status, property, birth, profession/job and so on [Qur'an 17/70]



Masjid in Senegal

Prophet (peace be upon him) Said: 'The most meritorious form of Almsgiving is the effort to help a poor man, made in secret, by one who is himself of little means.' (Ahmad).

The key to Paradise is salah, and the key to salah is taharah (purification)[Mishkat]

## 10 gems for a good life

- Wake up in the last third of the night to beg forgiveness from Allah. "...and those who pray and beg Allah's Pardon in the last hours of the night." (Qur'an, 3:17)
- At least once in a while, seclude yourself from people in order to contemplate. "Those who remember Allah standing, sitting, and lying down on their sides, and think deeply about the creation of the heavens and the earth..." (Qur'an, 3:191)
- Stay in the company of the righteous. "And keep yourself patiently with those who call on their Lord..." (Qur'an, 18:28)
- Remember Allah often. "Remember Allah with much remembrance." (Qur'an, 33:41)
- Pray two units of prayer with sincerity and devotion.? "Those who offer their prayer with all solemnity and full submissiveness." (Qur'an, 23:2)
- Recite the Qur'an with understanding and reflection. "Do they not then consider the Qur'an carefully?" (Qur'an, 4:82)
- Fast on a hot, dry day. "He abandons his food, drink, and desire — all for Me."
- Give charity secretly. "Until the left hand doesn't know what the right hand has spent."
- Provide relief and aid to the afflicted Muslim. "Whoever gives relief to a Muslim from one of the vicissitudes of this life, Allah will relieve him from a calamity that is from doing the calamities of the Day of Judgment."
- Be as abstemious and abstinent as possible in this fleeting world.? "The Hereafter is better and more lasting." (Qur'an 87: 17) – Excerpt from 'Don't Be Sad, IIPH

### Iftaar/Sahoor Timing

Day	Ramadhan	Aug/Sep.	Riyadh		Makkah	
			Fajr	Maghrib	Fajr	Maghrib
SAT	1	22	4:10	6:22	4:43	6:46
SUN	2	23	4:10	6:21	4:43	6:45
MON	3	24	4:11	6:20	4:44	6:44
TUE	4	25	4:11	6:19	4:44	6:44
WED	5	26	4:12	6:18	4:45	6:43
THU	6	27	4:13	6:17	4:45	6:42
FRI	7	28	4:13	6:16	4:45	6:41
SAT	8	29	4:14	6:15	4:46	6:40
SUN	9	30	4:14	6:14	4:46	6:39
MON	10	31	4:15	6:13	4:47	6:38
TUE	11	1	4:15	6:12	4:47	6:37
WED	12	2	4:16	6:11	4:47	6:37
THU	13	3	4:16	6:10	4:48	6:36
FRI	14	4	4:17	6:09	4:48	6:35
SAT	15	5	4:17	6:08	4:49	6:34
SUN	16	6	4:18	6:07	4:49	6:33
MON	17	7	4:18	6:06	4:49	6:32
TUE	18	8	4:19	6:05	4:50	6:31
WED	19	9	4:19	6:04	4:50	6:30
THU	20	10	4:19	6:04	4:50	6:30
FRI	21	11	4:20	6:02	4:51	6:28
SAT	22	12	4:20	6:01	4:51	6:27
SUN	23	13	4:21	6:00	4:51	6:26
MON	24	14	4:21	5:59	4:52	6:25
TUE	25	15	4:22	5:58	4:52	6:24
WED	26	16	4:22	5:57	4:52	6:23
THU	27	17	4:23	5:56	4:53	6:22
FRI	28	18	4:23	5:55	4:53	6:21
SAT	29	19	4:23	5:53	4:53	6:20

### خاموشی کی تعریف

خانہ کا نکات نے ویسے تو جسم کا کوئی بھی عضو ایسا نہیں بنایا، جو خاموشی بے مقصد ہو، لیکن ان میں زبان ہی سب سے اچھی اور سب سے بڑی شے ہے۔ یہ زبان ہی ہے، جو انسان کو قریش سے عرش پر لے جاتی اور عرش سے قریش پر ہی لے جاتی ہے، جس نے اس بے لگام کھوڑے کو قابو کر لیا، گویا اُس نے دنیا فتح کر لی۔  
دُشمن کے خلاف انسان کا سب سے کامیاب ہتھیار خاموشی ہے۔ جو جتنا کم بولتا ہے، اس کے دُشمن اتنے ہی کم ہوتے ہیں۔ دنیا میں جن انسانوں نے خوب ترقی کی، ان کے بارے میں مشاہدہ کیا گیا تو یہ چلا کہ وہ کم بولتے تھے۔ زیادہ بولنے والا ٹھیکریا بھانڈوں میں تو جگہ پاسکتا ہے لیکن کوئی خاص کارنامہ انجام نہیں دے سکتا ہے۔

## Attention

### Collective use of Zakaat money can change the society

Please give your zakaat money to Bihar Anjuman's local chapter, for collective use, to educate and empower the society."



Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people.

Wo gunah jis ka tumhein ranj ho, Allah k nazdeeq us nayki se behtar hai jis se tum main ghuroor paida ho jaye". ( Hazrat ALI R.A )

HADITH: An honest and trustworthy merchant will be with the martyrs on the Day of Resurrection

## The Glory of Al-Quran

Prophet Muhammad's (peace and blessings of Allah be upon him) proclaimed the reward of fasting:

"Every action of the son of Adam is given manifold reward, each good deed receiving ten times its like, up to seven hundred times. Allah the Most High said, 'Except for fasting, for it is for Me and I will give recompense for it, he leaves off his desires and his food for Me.' for the fasting person there are two times of joy; a time when he breaks his fast and a time of joy when he meets his Lord, and the smell coming from the mouth of the fasting person is better with Allah than the smell of musk."

"The month of Ramadan is that in which the Quran was revealed, a guidance to men and clear proofs of the guidance and the distinction" - Holy Qur'an 2:185

Recent Perspectives by others

" Fasting gives the body the environment to heal itself- physiologic rest"

"Abstinence from food for a short time can in no way operate to the disadvantage of a normal person."

"In fact, individuals affected with certain types of gastrointestinal disorders are benefited by fasting."

"Fasting has also been used in cases of diabetes and obesity."

"It is a cleansing process and a physiologic or functional rest which prepares the body for future correct living."

The role of fasting according to Dr Jack Goldstein\* It promotes elimination of metabolic wastes

It allows the body to adjust and normalize its biochemistry and also its secretions

It lets the body break down and absorb swellings, deposits, diseased tissues, and abnormal growths; It restores a youthful condition to the cells and tissues

It increases the powers of digestion and assimilation (absorption and utilization of food into the system) It permits the conservation and re-routing of energy; It clears and strengthens the mind;

Moreonislam@hotmail.com

حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی ﷺ نے خطبہ دیا جس میں فرمایا: "اے لوگو! ایک بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا مہینہ قریب آ گیا ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے اور اس مہینہ کی راتوں میں تراویح پڑھنا نفل کر دیا ہے (یعنی فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، جس کو اللہ پسند فرماتا ہے)۔ جو شخص اس مہینہ میں کوئی ایک نیک کام اپنے دل کی خوشی سے بطور خود کرے گا تو وہ ایسا کرے گا کہ رمضان کے سوا اور مہینوں میں فرض ادا کیا ہو، اور جو اس مہینہ میں فرض ادا کرے گا تو وہ ایسا کرے گا جیسے کہ رمضان کے سوا دوسرے مہینہ میں کسی نے (۷۰) فرض ادا کئے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ سوسائٹی کے غریب اور حاجت مندوں کے ساتھ مالی ہمدردی کا مہینہ ہے۔" (مختصر)

The man who is most hateful to Allah is the one who quarrels and disputes most. (Bukhari, Muslim).

Masjid in Algeria

Among the best of you [are they] who have the best character. (Bukhari, Muslim).

Masjid in Kosova

Helping Hands are better than praying lips

آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا  
آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا



Cooperate with one another in good deeds and do not cooperate with others in evil and bad matters [Qur'an 5/2]

Thank Allah for what you have, TRUST Allah for what you need.



Treat kindly Your parents, Relatives, The orphans and those who have been left alone in the society [Quran,4/36]

## FORTUNE FAVOURS THE BRAVE

Fortune favors the brave. I don't know who has written this line, but whoever that person was, I think he must have done something against the ferocious Destiny's will. It's quite impossible to figure out what's in store for you. There is always a difference between a player and a champion. A player just plays his game, but a champion masters that within him. There are many possible ways by which people loose their momentum in life and go astray. This is when "fortune favors the brave" inspires you.

However, no one can help anyone against their own will, even life can't. There are two possible ways to figure out what exactly you want to do. One is to turn a slave to the problem, curse your life or to come out fighting for your existence. We have to push ourselves to do something we think is quite impossible.

Life is an invisible devil, which always waits for your failure. If you want to win against all odds, you have to fight for every penny. The only way to live life is to stop expecting anything from it. Life never gives anything to a loser; life always lays the red carpet for a fighter. What I have perceived from my life is there are more failures than wins. I was broken but then I consolidated myself and came back into the buzz of this world and knocked every door and fought for my existence in this crowded world. What I learned was that even ALLAH never helps a person who can't help himself.

Life is always a bed of thorns rather than roses. It's up to you to turn it back and make it a bed of roses. Learn what life is teaching you. Try to become a good student of university of the Life. Learn from every mistake of yours and try not to repeat it again. The likes of Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Yasser Arafat, Fidel Castro, Mohammad Ali etc aren't divine, they have just pushed their limits.

A competitive nature will always spark your hunger to achieve your goals. Life hardly gives you a second chance, so try to grab the opportunity when it comes to you. I want to end my writing with a couplet:

Jis ko toofan se ulajhne ki ho aadat  
Aisi kashti ko samundar bhi dua deta hai..

S o h a i b Z a m a n -  
itsmeonlinetoday@gmail.com

### خواہش

ہلا وہ بھنور ہے، جس میں پھنس کر انسان اپنا مقصد حیات بھول جاتا ہے۔  
ہلا وہ جام ہے، جسے پیتا پیا جائے، پیاس نہیں بجھتی بلکہ مزید بڑھ پاتی ہے۔  
ہلا وہ آگ ہے، جو انسان کو گلہاڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔  
ہلا وہ سمندر ہے، جس کے سائل تک پہنچنا مشکل ہے۔  
ہلا وہ سیلاب ہے، جو انسان کو انسان سے دور لے جاتا ہے۔  
ہلا وہ کالی رات ہے، جو انسانی زندگی میں کبھی سویرا نہیں ہونے دیتی جو کبھی پوری نہیں ہوتی۔




Thanks Allah and do not forget to poor.



A mischief maker will not enter paradise. (Bukhari, Muslim)

Masjid in UAE



Avoid envy, for envy devours good deeds just as fire devours fuel. (Abu Dawud).

Masjid in Lebanon

## 1st RAHBAR Coaching Centre inaugurated in Shahpur Baghauni

RAHBAR Coaching Centre for class 8th, 9th & 10th got inaugurated by Maulana Anisur Rahman Quasmi Sb. (Nazim, Imarat Shariya) in the presence of Maulana Sanaul Huda Quasmi Sb. (Nayeb Nazim, Imarat Shariya), Enam Khan Sb (convenor, Patna chapter), Najumul Hasan Najmi Sb (co-convenor, Patna chapter) and Shakeel Ahmad Sb (moderator, RAHBAR international) at Madarsa Islamia, Shahpur Baghauni (Distt: Samastipur), on 30th July 2009.

Announcement for opening of ITI (by Imarat Sharia, assisted by RAHBAR) in the same Madarsa was also made during the inaugural function.

A Madarsa-cum-School, exclusively for girls, was also announced (to be managed by RAHBAR). The name of this Madarsa will be "Madarsa RAHBAR-e-Banaat". It will be located at Rahimabad (Distt. Samstipur). RAHBAR Coaching Centre in Patna will start in first week of August.



The believers are but a single Brotherhood. Live like members of one family, brothers and sisters unto one another [Quran,49/10].

The most excellent jihad is when one speaks a true word in the presence of a tyrannical ruler. (Tirmidhi)

Masjid in Brunei

The believer is not the one who eats his fill when the neighbour beside him is hungry. (Baihaqi)

Masjid in Egypt

Let market do not waste your time in holy Ramadan

Always be prepared for death, it can come any time, any where without any prior notice

بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن اس زمانے میں کوئی حیدر قرار بھی ہے؟  
اقبال اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے؟

Be Practical than Preacher

## What to avoid in Ramadan

1. Reduce watching TV, instead spend more time reading the Quran and other Islamic literature.
2. Avoid looking at unlawful pictures, whether magazines, department store catalogs or otherwise.
3. Avoid going to theaters; instead go to Masajid, Islamic organizations and make that a daily habit.
4. Avoid eating too much. Eat only when you are hungry and try not to fill your stomach completely.
5. If you drink Coffee, Tea or Soda, be sure to reduce c o n s u m p t i o n \_\_\_\_\_.
6. If you smoke, try to reduce daily usage; otherwise Ramadan will be very difficult for you to observe.
7. If you have friends who do not practice the teaching of Islam, try to avoid socializing with them.
8. If you travel a lot on business, try to do more local business, so you can be more closer to your family and c o m m u n i t y \_\_\_\_\_.
9. If you are used to staying up till midnight, try to go to bed earlier, so that you will be able to wake up early for Salat al-Fajr and Tahajjud prayers as well. To prepare ourselves before the month of Ramadan arrives is far better than waiting till it comes. To prepare ourselves for anything in life is a sign of wisdom and maturity. No one is assured of living one day more; tomorrow may not come. So hurry and benefit from blessings and rewards from Allah.

Remember: "Time is not money or gold; it is life itself and is limited. You must begin to appreciate every moment of your life and always strive to make the best use of it.

## A quick preparation for Ramadan Kareem

1. Start reading Quran daily after Salat al-Fajr.
2. Spend some time listening to recitations from the Quran.
3. Train yourself to go to bed early so that you can wake up for Salat al-Fajr.
4. Keep yourself in a state of Wudu (Ablution) most of the time.
5. Evaluate yourself daily before going to bed.
6. Thank Allah for good deeds, and repent to Him for your mistakes and sins.
7. Start giving Sadaqah daily, no matter how little. Make it a habit like eating and drinking.
8. Find time to pray extras, such as Tahajjud prayers.
9. Spend more time reading Islamic books, especially the Quran, Sirah, Hadith, and Fiqh.
10. Find time to help others with your wisdom, knowledge and other talents.
11. Try to write articles on Islam for Muslims as well as for non-Muslims.
12. Associate with Muslim scholars / ulama and other pious people so that you may learn from them.
13. Train yourself to do good, render free service to others to seek the pleasure of Allah.



"The most beloved of people to Allah is the one who brings most benefit to people, and the most beloved of deeds to Allah is making a Muslim happy"

The lawful thing Allah hates most is divorce. (Abu Dawud)

Masjid in Libya

Veil enhance dignity of women

No efforts go in vain

کبھی اے حقیقت منتظر نظر آلباس حجاز میں کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں جو میں سر سجدہ ہوا کبھی، تو زمیں سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں اقبال

You can't have a better tomorrow if you are thinking about yesterday all the time

اس سے پہلے کے رمضان گزر جائے!!!

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں پر کوئی مہینہ رمضان سے بہتر نہیں آیا اور منافقوں پر کوئی مہینہ رمضان سے برائے نہیں آیا۔“ (مسند احمد)

جس کیلئے رمضان خیر کا سبب نہ ہو، اس کے درجات کی بلندی کا سبب نہ بنے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہ بنے وہ شخص اپنا جائزہ لے کہ وہ مسلمانوں میں سے ہے یا منافقوں میں سے۔ جو رمضان خیر نہیں پائے وہ اپنا جائزہ لے کہ وہ دونوں گروہوں میں سے کس میں سے ہے، اہل اسلام میں سے یا اہل نفاق میں سے۔

”روزہ کے برابر کوئی چیز نہیں۔“ (نسائی)

”روزہ دار کی دعا روز نہیں کی جاتی۔“ (بیہقی)

”روزہ دار کے منہ کو اللہ کے نزدیک منگ کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔“ (صحیح مسلم)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور روزِ خ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوتا۔ اور جب کے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور آواز دینے والا آواز لگاتا ہے، خیر طلب کرنے والو نیک کام کیلئے آگے بڑھو۔ اور رے کام کی طلب رکھو اور رے کام سے رگ جاؤ۔“ (جامع ترمذی، ابن ماجہ)

”حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رمضان کی راتوں میں ہر رات آسمان سے ایک اعلان کرنا لایا یہ اعلان کرتا ہے (اور یہ اعلان فخر تک جاری رہتا ہے)، اے نیکی کے چاہنے والے ارادہ کر (اب موسم ہے نیک ارادوں کا) اور ریشہ رت کو قبول کر، اور ریشہ کے چاہنے والے، بُرائی سے تحم جا (اب بھی موسم ہے بُرائی کے جاری رکھنے کا؟) اپنے انجام پر غور کر۔ اس کے بعد وہ منادی کرنا لایا اعلان کرتا ہے، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرنا لایا؟، اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے۔ ہے کوئی توبہ کرنا لایا؟، وہ توبہ کرے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے۔ ہے کوئی فریادیں جو فریاد کرے اور اللہ اس کی فریاد پورا کرے۔ ہے کوئی سوال کرنا لایا، وہ اللہ سے سوال کرے، اور اللہ اس کے سوال کو پورا کرے۔ (بیہقی)

یہاں تک رمضان کی بے شمار فضیلتوں میں سے صرف چند ایک کا ذکر کیا گیا، اب سوال یہ ہے کہ ہم نے رمضان میں کیا کیا ہے؟ کھانا، سونا بیکاریا توں میں وقت ضائع کرنا، وقت گزرنے کوئی وی کے گندے پروگرام دیکھنا، کہیں رمضان میں ہماری مصروفیات یہ تو نہیں ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں! اللہ کی طرف سے نیکیوں کے کمانے کے جو موسم ہوتے ہیں، گناہوں کی معافی کے جو مواقع میسر آتے ہیں، اگر کوئی ان سے فیض یاب نہ ہو، اس پر اللہ کی ناراضگی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بہت خطرے کی بات ہے، بہت سنگین بات ہے، جو رمضان کی خیر و برکات کو حاصل نہ کرے، رمضان میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہ کرے، اس کے لئے بددعا ہے، نہایت ہی اہم بات ہے۔ اس کے لئے بددعا ہے جس کی؟ اس کے لئے بددعا اس پاک شخصیت کی جو اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ ہریان ہیں۔ جو سراپا شفقت، مجسم محبت و پیار ہیں۔ اللہ کی ساری مخلوق میں ان سے زیادہ پیار کرنا والا، ان سے زیادہ ہریان کوئی ہستی نہیں۔ اور وہ ہیں ہمارے رسول کریم ﷺ۔ آپ ﷺ نے اس بد نصیب کیلئے بددعا کی ہے، جس کی زندگی میں رمضان آجائے اور گزر جائے، اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے، جو اپنی زندگی میں رمضان کو پائے اور رمضان گزر جائے اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے۔“ (جامع ترمذی)

کتنا سنگین معاملہ ہے۔ اے اللہ کے بندو! کمر بستہ ہو جائے، پختہ ارادہ کر لیجئے کہ رمضان کے گزرنے سے پہلے اللہ سے اپنے دامن کو گناہوں سے پاک کروانا ہے۔ ورنہ اس زندگی کا کیا فائدہ؟ اس جینے کا کیا فائدہ کیا رمضان آئے اور دامن گناہوں سے آلودہ رہے۔ اور رحمت دو عالم ﷺ کی بددعا ہمارے نصیب میں (معاذ اللہ) آئے۔ اور آپ ﷺ نے ہی صرف ان بد نصیبوں کیلئے بددعا نہیں کی، جبریل آئے اور انہوں نے بھی بددعا کی اور نبی رحمت ﷺ نے آمین کہا۔

تجانی ہے ہر اس شخص کے لئے جو (منہ درمنہ) لوگوں پر ظن اور (پینہ پیچھے) بُدائیاں کرنے کا خوگر ہے۔ جس نے مال جمع کیا اور اس سے گمن گمن کر رکھا۔ وہ جھٹتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ ہر گرو نہیں، وہ شخص تو چنگا چوڑ کر دینے والی جگہ میں چھینک دیا جائیگا۔ اور ختم کیا جائیگا کہ کیا ہے وہ چنگا چوڑ کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ، خوب بھڑکائی ہوئی، جو دلوں تک پہنچے گی۔ وہ ان پر ڈھا تک کر بند کر دی جائے گی (اس حالت میں کہ وہ) اُوٹے اُوٹے نچے نچے ستونوں میں (گھر سے ہوتے ہوں گے)۔

بچپن	فانی	تری	جوانی	فانی
فانی	ہے	تمام	زندگانی	فانی
اللہ	سے	کو	لگا	کہاں کی دُنیا
باقی	باقی	ہے	فانی	فانی

The FREE online Recruiting Service in Gulf region www.GulfLet.com



Success is the ability to go from failure to failure without losing your enthusiasm.



Learn Deen to follow rightly



Say thanks to Allah in all condition



Sajda, to get closer to Allah

کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے  
طبع آزاد پر قید رمضان بھاری ہے تمہی کہ دو، یہی آئین وفاداری ہے؟ اقبال

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever

...Continued from page 11

حضرت ماہک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ منبر پر تشریف لائے، منبر کی ایک بیڑھی پر قدم رکھا اور آئین کہا، پھر دوسری بیڑھی پر تشریف لائے اور آئین کہا، پھر تیسری بیڑھی پر تشریف لائے اور آئین کہا۔ پھر فرمایا: میرے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا اور اسے گناہوں کو معاف نہ کیا گیا اسکو اللہ اپنی رحمت سے دور کرے، میں نے کہا آئین۔۔۔ (ابن حبان)

جسکے لئے بدعا جبرئیل آئین کرے، اس پر آئین نبی رحمت ﷺ کریں تو اس بد نصیب کا کیا ہے؟ لو کو اور بڑے خطرے کی بات ہے، جبرئیل علیہ السلام کیا اپنی مرضی سے بدعا کر رہے ہیں؟ جبرئیل کا آنا اپنی مرضی سے ہے؟ جبرئیل کا یہ بدعا کرنا اپنی مرضی سے ہے؟ یہ سارا کچھ تو عرش والے رب کے حکم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نفضل و کرم سے مجھے اور آپ کو ہوش نصیب کرے، آئین یہ رمضان اس بدعنا کے پانے کا سبب نہ ہو، ذلت و خواری کا سبب نہ ہو بلکہ ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو، جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ پانے کا سبب ہو، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما! اے اللہ یہ رمضان ہمارے گناہوں سے معافی کا سبب ہو، اے اللہ آپ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہو، اے اللہ قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس میں تدبیر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ! ہمیں ان بد بخت لوگوں میں شامل نہ کرنا جو ایلیتہ القدر کی خیر سے محروم رہے، اے اللہ! ہمنا اللہ تعالیٰ کو اپنے نفضل و کرم سے ایلیتہ القدر نصیب فرما، اے ایلیتہ القدر کی خیر و برکات ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اعمال اگرچہ اس سوال کے کرنے کے قابل نہیں، لیکن اے اللہ آپ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے، آپ کی شفقت پر اعتماد کرتے ہوئے، ہم آپ سے اپنے گناہوں کے باوجود اتنا بڑا سوال کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے سوال کو پورا فرما، اے اللہ ہم گناہگاروں کو، ہمارے گھر والوں کو اور امت مسلمہ کو ایلیتہ القدر نصیب فرما۔ آئین

شامل ہونے کا پتہ :- [islamic\\_portal-subscribe@googlegroups.com](mailto:islamic_portal-subscribe@googlegroups.com)

ان مقدس تعلیمات کو تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاءك اللہ [www.islamic-portal.net](http://www.islamic-portal.net)

"The editors and publishers are not responsible for the views of writers, and their views do not reflect our policy or ideology in any way. We however reserve the right to edit any material submitted for publication, on account of public policy, or for reasons of clarity and space. - From Publishers."

Pictures have been picked up from available public sources.



Editorial Board

Publisher: Bihar Anjuman  
Chief Editor: Sharjeel Ahmad (New Delhi)  
Editors: Md. Shamim Ahmad, (Delhi)  
Seraj Akram (Riyadh)



[bakhabar@biharanjuman.org](mailto:bakhabar@biharanjuman.org)



Together we can change our society.

Join Bihar Anjuman  
[www.biharanjuman.org](http://www.biharanjuman.org)

write to [bakhabar@biharanjuman.org](mailto:bakhabar@biharanjuman.org), to form a chapter in your city or country

Dubai

Abu Dhabi

Chennai

Bangalore

Delhi

Jeddah

Riyadh

Chicago

California

Patna

Aligarh

Jubail

Qatar

Kolkata

Hyderabad

Toronto

Muscat

Muzaffarpur

Ranchi

Gaya

Hafuof/Dammam/Khobar

Makkah Mokarrama